

23472 - ناقص العقل ک#1740؛ شاد#1740؛ کرنا

سوال

میرا ایک تیس سالہ بھائی فہد شادی کرنا چاہتا ہے لیکن مندرجہ ذیل مشکل درپیش ہے :
وہ ایک عام قسم کا انسان اور اس کا حافظہ بھی قوی ہے جسم بھی ٹھیک ٹھاک اور صحیح ہے عورت اور مرد کی پہچان
کر سکتا ہے ، اور جب ہم شادی کے معاملت میں بات چیت کریں تو اسے بھی وہ سمجھتا ہے ، لیکن اس میں تمیز
نہیں کر سکتا ۔

دوسروں معنوں میں یہ کہ وہ نہ تو شادی کے معنی سمجھتا ہے اور نہ ہی طلاق اور واجب قسم کے حقوق زوجیت میں
تمیز کرتا ہے ، تو سوال یہ ہے کہ آیا اس کی شادی کرنا جائز ہے کہ نہیں آپ کے علم میں رہے کہ وہ کہتا ہے میں
شادی کرنا چاہتا ہوں ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اس کی شادی کرنا جائز ہے ، لیکن شرط یہ ہے کہ لڑکی کے ولی اور لڑکی کو اس کے عقلی نقص اور عدم تمیز کے
متعلق بتانا ضروری ہے ، اور یہ کہ اسے شادی کے معنی کا علم نہیں نہ ہی وہ طلاق اور حقوق واجبہ کو سمجھتا ہے ،
اور یہ کہ وہ نماز کی صحیح کیفیت بھی نہیں جانتا ، اور اسی طرح وہ بے کار ہے ، اس کی گواہی بھی نہیں ۔

اور نہ ہی اس کے پاس ایسی معلومات ہیں جس سے یہ سمجھ سکے کہ اسے کیا چیز نفع دے گی اور کیا نقصان ،
اور جب اس کی شادی ہو جائے تو یہ لازمی ہے کہ اس کا بھائی یا پھر والد اس کی نگرانی کرے اور اس کی ضروریات
پوری کرے ، اس کی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام کرے اور اسی طرح شادی کے لوازمات و خرچہ اور مہر کا بھی
انتظام کرنا ضروری ہے ، کیونکہ یہ نقص ایسا عیب شمار کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے نکاح رد ہو سکتا ہے ، جب
عورت اور اس کے ولی کے سامنے یہ سب کچھ بیان ہو چکا ہو تو ٹھیک کیونکہ مسلمان پر اپنی شروط پر قائم رہتے
ہیں ۔

والله اعلم .